



## اپنی COVID-19 ویکسینیشن کا ثبوت حاصل کریں

آپ کی immunisation history statement (حفاظتی ٹیکوں کی سٹیٹمنٹ) میں آپ کی COVID-19 ویکسینیشن درج ہوتی ہے۔

آسان ترین طور پر اپنی سٹیٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے آن لائن ان دونوں میں سے کوئی طریقہ استعمال کریں:

- myGov کے ذریعے آپ کا Medicare online اکاؤنٹ
- Express Plus Medicare موبائل ایپ۔

### آپ اپنی immunisation history statement کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟

myGov کے ذریعے اپنا Medicare online account استعمال کرنا:

1. myGov میں سائن ان کریں اور Medicare چنیں۔
2. Immunisation history کی سرخی کے تحت View statement چنیں۔
3. اپنا نام چنیں، اور پھر View history statement (PDF) چنیں۔

Express Plus Medicare موبائل ایپ استعمال کرنا:

1. ایپ میں لاگ آن کریں۔
2. Services میں سے Immunisation history چنیں۔
3. اپنا نام چنیں، اور پھر View history statement (PDF) چنیں۔

اگر آپ آن لائن اپنی immunisation history statement حاصل نہ کر سکتے ہوں یا آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو 1800 653 809 پر کال کریں۔

### اگر آپ کے پاس Medicare آن لائن اکاؤنٹ نہیں ہے تو:

آپ کو اپنے myGov اکاؤنٹ میں Medicare کو لنک کرنا ہوگا تاکہ آپ اپنا Medicare آن لائن اکاؤنٹ بنا سکیں۔

my.gov.au پر اپنے myGov اکاؤنٹ میں سائن ان کریں یا اکاؤنٹ بنائیں۔

پھر آپ ان دونوں طریقوں میں سے کسی طریقے کو استعمال کر کے Medicare کو لنک کر سکتے ہیں:

- اپنا Medicare کارڈ نمبر اور اپنی Medicare کی گزشتہ تفصیلات
- Medicare کا جاری کردہ لنکنگ کوڈ۔

myGov میں Medicare کو لنک کرنے میں مدد کے لیے [servicesaustralia.gov.au/medicareguides](https://servicesaustralia.gov.au/medicareguides) دیکھیں۔

### Medicare میں اپنی رابطہ تفصیلات تازہ رکھیں

یہ اہم ہے کہ Medicare میں آپ کی حالیہ رابطہ تفصیلات درج ہوں۔ آپ اپنے Medicare آن لائن اکاؤنٹ یا Express Plus Medicare کے ذریعے اپنی رابطہ تفصیلات دیکھ سکتے ہیں اور ان میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔

## اگر آپ Medicare یا Department of Veterans' Affairs (DVA) کے لیے اہل نہیں ہیں تو

آپ ہم سے Individual Healthcare Identifier (IHI) لینے کی درخواست کر سکتے ہیں تاکہ آپ My Health Record کے ذریعے اپنی امیونائزیشن کا خلاصہ حاصل کر سکیں۔ مزید معلومات کے لیے [servicesaustralia.gov.au/ihi](https://servicesaustralia.gov.au/ihi) دیکھیں۔

COVID-19 کے متعلق تازہ ترین اطلاعات اور ہدایات کے لیے [australia.gov.au](https://australia.gov.au) دیکھیں۔

## مزید معلومات

- Medicare کی خدمات کے بارے میں ہمارے ساتھ اپنی زبان میں بات کرنے کے لیے **131 450** پر Translating and Interpreting Services (TIS National) کو فون کریں۔
- انگلش میں مزید معلومات کے لیے [servicesaustralia.gov.au/ihs](https://servicesaustralia.gov.au/ihs) دیکھیں
- [servicesaustralia.gov.au/yourlanguage](https://servicesaustralia.gov.au/yourlanguage) دیکھیں جہاں آپ اپنی زبان میں معلومات پڑھ اور سن سکتے ہیں اور اپنی زبان میں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں
- کسی سروس سنٹر میں جائیں۔

نوٹ: آسٹریلیا میں کسی بھی جگہ سے لینڈ لائن سے '13' سے شروع ہونے والے نمبروں کو کال کرنے کے لیے ایک شرح معاوضہ مقرر ہے۔ یہ شرح لوکل کال کی قیمت سے مختلف ہو سکتی ہے اور مختلف فون سروس کمپنیوں کے درمیان بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ '1800' سے شروع ہونے والے نمبروں کو لینڈ لائن سے کال کرنا مفت ہے۔ پبلک فون اور موبائل فون سے کی جانے والی کالوں کا وقت نوٹ کیا جا سکتا ہے اور شرح معاوضہ زیادہ ہو سکتی ہے۔